

111788-ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا کسی کو اپنی طرف سے حج کیلئے وکیل بنایا جاسکتا ہے؟

سوال

ایسا شخص کیا کرے جس نے پہلے حج نہیں کیا ہوا لیکن اب حج کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں، کیا وہ کسی کو اپنی طرف سے حج کیلئے وکیل مقرر کر سکتا ہے؟

پسندیدہ جواب

سنت نبویہ میں کسی کی طرف سے حج کرنے کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں:

پہلی صورت: کسی فوت شدہ کی طرف سے حج کیا جائے

اسکی دلیل صحیح مسلم (1149) کی روایت

ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فوت شدہ والدہ کے بارے میں پوچھا، اور کہا: "اللہ کے رسول! میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا، تو کیا میں اسکی طرف سے حج کروں؟" آپ نے فرمایا: (اسکی طرف سے حج کرو)

دوسری صورت: جو بدنی طور پر حج کرنے

سے عاجز ہو، مثلاً: انتہائی بوڑھا شخص جو سفر نہیں کر سکتا، اور حج میں پیش آنے والی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتا، یا دائمی مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو۔

اسکی دلیل یہ ہے کہ ایک خاتون نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول: "اللہ کی جانب سے اسکے بندوں پر عائد فریضہ حج میرے والد پر ابھی باقی ہے، وہ سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتا،

تو کیا میں اسکی طرف سے حج کروں؟" آپ نے فرمایا: (ہاں) بخاری (1513) و مسلم (1334)

اور جو شخص حج کرنے سے صرف اس لئے

عاجز ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جاسکتا، تو یہ ایسا معاملہ جس کے ختم ہونے کی امید کی جاسکتی ہے، اور بہت سے لوگ جن کیلئے ملک سے باہر جانا ممنوع تھا، کچھ مدت کے بعد حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہیں باہر جانے کی اجازت مل گئی۔

دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ میں ہے

: (11/51)

”ایسا مسلمان جس نے اپنا حج ادا کر لیا ہے وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے، مثال کے طور پر وہ شخص عمر رسیدہ ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں، یا وہ فوت ہو چکا ہے؛ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، اور اگر جس کی طرف سے حج کا ارادہ ہے وہ کسی عارضی رکاوٹ کی وجہ سے حج کی ادائیگی نہیں کر سکتا مثلاً: ایسی بیماری اسے لاحق ہے جس سے شفا یابی کی امید ہے، یا کوئی سیاسی عذر ہے، یا سفر کیلئے راستہ پر امن نہیں وغیرہ؛ تو ایسی شکل میں اس کی جانب سے حج کرنا درست نہیں ہوگا“

شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن

باز... شیخ عبدالرزاق عقیفی... شیخ عبداللہ بن قعود.

اس بنا پر ملک سے باہر جانے پر پابندی

کی وجہ سے اسے حج کیلئے کسی کو وکیل بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ممانعت ختم ہونے کا انتظار کرے، اور پھر خود حج کرے.